

Corporate Card Summary Box / Key Fact Statement

کارپوریٹ کارڈ سمری باکس / کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ
2026 جنوری تا جون (Jan - June 2026)

The information contained in this box summarises key features of Corporate Card and is not intended to replace any terms & conditions of the product. It is very important that you should carefully read the full terms & conditions before agreeing and signing this information.

اس باکس میں موجود معلومات کارپوریٹ کارڈ کی اہم خصوصیات کا خلاصہ ہیں اور اس کا مقصد اس پراڈکٹ کی کسی بھی شرائط و ضوابط کی جگہ لینا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ ان معلومات سے متفق ہونے اور ان پر دستخط کرنے سے پہلے تمام شرائط و ضوابط کو بغور پڑھ لیں۔

معلومات / Information	وضاحت / Explanation								
Joining Fee/Annual Fee جوائننگ فیس / سالانہ فیس	Annual Fee/Joining Fee سالانہ فیس / جوائننگ فیس Rs. 6,000/- per card from second year onwards 6,000 روپے فی کارڈ، دوسرے سال سے لاگو								
Annualised Percentage Rate (APR) سالانہ فیصد شرح (APR)	عام 24 فیصد سالانہ شرح 24% APR $APR = \frac{\text{Markup or Profit Paid for the Period}}{\text{Outstanding Principal Amount}} \times \frac{365}{\text{No. of Days}} \times 100$ $APR = \frac{\text{مقررہ مدت کے لیے ادا کی گئی مارک اپ یا منافع کی رقم}}{\text{بقایا اصل رقم}} \times \frac{365}{\text{دنوں کی تعداد}} \times 100$ Example 1 (30-day cycle – 24% APR) Customer has a credit limit of Rs. 100,000. His outstanding principal amount is Rs. 60,000, and he has paid markup/profit of Rs. 1,184 for a billing period of 30 days. مثال 1 (30 دن سائیکل – 24 فیصد APR) صارف کے کریڈٹ کارڈ کی حد روپے 100,000 ہے۔ اس کی بقایا اصل رقم 60,000 روپے ہے اور اس نے 30 دن کے بلنگ پیریڈ کے لیے 2,270 روپے بطور مارک اپ / منافع ادا کیا ہے۔ بقایا اصل رقم = 60,000 روپے ادا کیا گیا مارک اپ / منافع = 1,184 روپے بلنگ پیریڈ = 30 دن APR Calculation: $APR = (1,184 / 60,000) \times (365 / 30) \times 100 \approx 24\%$								
Markup Rates مارک اپ ریٹس	<table><tr><th>Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم</th><th>Introductory Rate تعارفی ریٹ</th><th>Monthly Rate ماہانہ ریٹ</th><th>Annual Rate سالانہ ریٹ</th></tr><tr><td>Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن</td><td>24.0% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب 24 فیصد APR</td><td>2.0% per month 2.0 فیصد ماہانہ</td><td>24.0% per annum 24 فیصد سالانہ</td></tr></table> For further details on markup rates refer to SOC at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس کے بارے میں مزید تفصیلات کے لئے براۓ مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے	Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	Introductory Rate تعارفی ریٹ	Monthly Rate ماہانہ ریٹ	Annual Rate سالانہ ریٹ	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	24.0% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب 24 فیصد APR	2.0% per month 2.0 فیصد ماہانہ	24.0% per annum 24 فیصد سالانہ
Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	Introductory Rate تعارفی ریٹ	Monthly Rate ماہانہ ریٹ	Annual Rate سالانہ ریٹ						
Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	24.0% p.a. for 12 months 12 ماہ کیلئے بحساب 24 فیصد APR	2.0% per month 2.0 فیصد ماہانہ	24.0% per annum 24 فیصد سالانہ						
Markup Free Period مارک اپ سے پاک مدت	Up to 51 days (maximum) from statement date to next due date - Cash transactions are excluded from the markup free period اسٹیٹمنٹ کی تاریخ سے آئندہ واجب الادا تاریخ تک 51 دن (زیادہ سے زیادہ) - رقم کی ٹرانزیکشنز غیر مارک اپ میں شامل نہیں ہیں۔								
Markup Charging Information مارک اپ کی وصولی سے متعلق معلومات	No markup would be charged on transactions, if the payment of the outstanding amount is paid in full on or before the payment due date for each billing cycle. Otherwise, the period over which markup is charged for different credit card transactions will be mentioned as below: اگر ہر بلنگ سائیکل کے لیے پوری ادائیگی واجب الادا تاریخ پر یا اس سے قبل کی جا رہی ہے تو کوئی مارک اپ چارج نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر مختلف کریڈٹ کارڈز ٹرانزیکشنز کے لیے مارک اپ کی چارجنگ مدت ذیل میں درج ہے۔ <table><tr><th>Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم</th><th>From از</th><th>Until تا</th></tr><tr><td>Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن</td><td>Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ</td><td>0.065% daily unless paid in full 0.065 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے</td></tr></table> For further details on markup rates refer to SOC at www.bankalfalah.com مارک اپ ریٹس منافع کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براۓ مہربانی www.bankalfalah.com پر شیڈول آف بینک چارجز ملاحظہ کیجئے	Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تا	Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.065% daily unless paid in full 0.065 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے		
Transaction Type ٹرانزیکشن کی قسم	From از	Until تا							
Retail Transactions ریٹیل ٹرانزیکشن	Transaction date ٹرانزیکشن کی تاریخ	0.065% daily unless paid in full 0.065 فیصد جب تک مکمل ادائیگی نہ کر دی جائے							

Payments Allocation ادائیگیوں کا تعین	- In case of full payment of the total outstanding amount spent on the credit card within the billing date, no markup will be charged اگر کریڈٹ کارڈ پر پوری خرچ کی گئی رقم کی مکمل ادائیگی تاریخ ادائیگی پر یا اس سے قبل کی جارہی ہے تو کوئی مارک اپ چارج نہیں ہے۔ - In case of partial payments of the outstanding amount spent on the credit card. The payment will be subject to the following grid as per the payment sequence کریڈٹ کارڈ پر خرچ کی گئی رقم کی جزوی ادائیگی کی صورت میں ادائیگی کی ترتیب مندرجہ ذیل گروڈ سے مشروط ہوگی <table><tr><th>Payment Sequence</th><th>ادائیگی کی ترتیب</th><th>Payments Category</th><th>ادائیگی کی کیٹیگری</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Billed Service Charges</td><td>بل کیے گئے سروس چارجز</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Billed Retail</td><td>بل کیا گیا رٹیل</td></tr></table>	Payment Sequence	ادائیگی کی ترتیب	Payments Category	ادائیگی کی کیٹیگری	1		Billed Service Charges	بل کیے گئے سروس چارجز	2		Billed Retail	بل کیا گیا رٹیل
Payment Sequence	ادائیگی کی ترتیب	Payments Category	ادائیگی کی کیٹیگری										
1		Billed Service Charges	بل کیے گئے سروس چارجز										
2		Billed Retail	بل کیا گیا رٹیل										
Minimum Monthly Repayments کم از کم واپس کی جانے والے ماہانہ ادائیگیاں	Rs. 500 or 1% of the outstanding amount, whichever is higher. 500 روپے یا واجب الادا رقم کا ایک فیصد جو بھی زیادہ ہو۔ 'If you make a minimum payment, markup will be charged on the remaining balance after due date, so it will cost more and take longer to clear the balance. Markup free period is also lost if any balance of the previous month's bill is outstanding.' کم از کم ادائیگی کی صورت میں بقیہ واجب الادا رقم پر ادائیگی کی حتمی تاریخ گزرنے کے بعد مارک اپ وصول کیا جائے گا، اس طرح اس کی لاگت زیادہ ہوگی اور بیلنس کلیئر ہونے میں زیادہ وقت لگے گا۔ گذشتہ ماہ کا بیلنس باقی ہونے کی صورت میں مارک اپ سے پاک مدت بھی ضائع ہو جائے گی۔												
Card Limits کارڈ کی حد	<table><tr><th>Card Type</th><th>کارڈ کی قسم</th><th>Maximum Card Limit</th><th>کارڈ کی زیادہ سے زیادہ حد</th></tr><tr><td>Corporate Card</td><td>کارپوریٹ کارڈ</td><td>100,000 up to 5,000,000 per card</td><td>100,000 سے 5,000,000 تک فی کارڈ</td></tr></table>	Card Type	کارڈ کی قسم	Maximum Card Limit	کارڈ کی زیادہ سے زیادہ حد	Corporate Card	کارپوریٹ کارڈ	100,000 up to 5,000,000 per card	100,000 سے 5,000,000 تک فی کارڈ				
Card Type	کارڈ کی قسم	Maximum Card Limit	کارڈ کی زیادہ سے زیادہ حد										
Corporate Card	کارپوریٹ کارڈ	100,000 up to 5,000,000 per card	100,000 سے 5,000,000 تک فی کارڈ										
Charges چارجز	<table><tr><td>E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ٹرانزیکشن مسترد ہونے کی فیس</td><td>Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن</td></tr><tr><td>Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز</td><td>Rs. 1,000/- 1,000 روپے</td></tr><tr><td>Foreign Transactions غیر ملکی ٹرانزیکشنز</td><td>Up to 4.5% or Rs. 100/- which ever is higher. Third currency into US Dollars as per rate quoted under arrangement with Visa and MasterCard. Cross border transaction fee will also be charged as per Visa/MasterCard rules (Same to be applied for DCC transactions) زیادہ سے زیادہ 4.5 فیصد یا 100 روپے۔ تیسری کرنسی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے تحت بتائی گئی شرح کے مطابق امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ویزا/ماسٹر کارڈ کے قواعد کے مطابق وصول کی جائے گی (ڈی سی سی ٹرانزیکشنز پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔)</td></tr><tr><td>SMS Alert Fee ایس ایم ایس الرٹ فیس</td><td>Free کوئی فیس نہیں</td></tr><tr><td>Over Limit Fee اوور لمٹ فیس</td><td>2% of the over-limit amount or PKR 1,600/- whichever is higher Note: Excess over-limit fee is charged on your credit cards when principal outstanding exceeds the limit. It is charged on a recurring monthly basis until the outstanding is adjusted to fall below the allowed limit. اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1,600 روپے، جو بھی زیادہ ہو نوٹ: جب پرنسپل واجبات حد سے تجاوز کر جائیں تو آپ کے کریڈٹ کارڈز پر زائد فیس وصول کی جاتی ہے۔ یہ چارجز مدتی بنیاد پر ماہانہ وصول کیے جائیں گے جب تک کہ واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اور وہ منظور کردہ حد کے اندر نہ آجائیں۔</td></tr></table>	E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ٹرانزیکشن مسترد ہونے کی فیس	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن	Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز	Rs. 1,000/- 1,000 روپے	Foreign Transactions غیر ملکی ٹرانزیکشنز	Up to 4.5% or Rs. 100/- which ever is higher. Third currency into US Dollars as per rate quoted under arrangement with Visa and MasterCard. Cross border transaction fee will also be charged as per Visa/MasterCard rules (Same to be applied for DCC transactions) زیادہ سے زیادہ 4.5 فیصد یا 100 روپے۔ تیسری کرنسی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے تحت بتائی گئی شرح کے مطابق امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ویزا/ماسٹر کارڈ کے قواعد کے مطابق وصول کی جائے گی (ڈی سی سی ٹرانزیکشنز پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔)	SMS Alert Fee ایس ایم ایس الرٹ فیس	Free کوئی فیس نہیں	Over Limit Fee اوور لمٹ فیس	2% of the over-limit amount or PKR 1,600/- whichever is higher Note: Excess over-limit fee is charged on your credit cards when principal outstanding exceeds the limit. It is charged on a recurring monthly basis until the outstanding is adjusted to fall below the allowed limit. اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1,600 روپے، جو بھی زیادہ ہو نوٹ: جب پرنسپل واجبات حد سے تجاوز کر جائیں تو آپ کے کریڈٹ کارڈز پر زائد فیس وصول کی جاتی ہے۔ یہ چارجز مدتی بنیاد پر ماہانہ وصول کیے جائیں گے جب تک کہ واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اور وہ منظور کردہ حد کے اندر نہ آجائیں۔		
E-Commerce Decline Transaction Fee ای کامرس میں ٹرانزیکشن مسترد ہونے کی فیس	Rs. 90/- per decline 90 روپے فی ڈیکلائن												
Card Maintenance Charges کارڈ مینٹیننس چارجز	Rs. 1,000/- 1,000 روپے												
Foreign Transactions غیر ملکی ٹرانزیکشنز	Up to 4.5% or Rs. 100/- which ever is higher. Third currency into US Dollars as per rate quoted under arrangement with Visa and MasterCard. Cross border transaction fee will also be charged as per Visa/MasterCard rules (Same to be applied for DCC transactions) زیادہ سے زیادہ 4.5 فیصد یا 100 روپے۔ تیسری کرنسی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے تحت بتائی گئی شرح کے مطابق امریکی ڈالر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کراس بارڈر ٹرانزیکشن فیس بھی ویزا/ماسٹر کارڈ کے قواعد کے مطابق وصول کی جائے گی (ڈی سی سی ٹرانزیکشنز پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔)												
SMS Alert Fee ایس ایم ایس الرٹ فیس	Free کوئی فیس نہیں												
Over Limit Fee اوور لمٹ فیس	2% of the over-limit amount or PKR 1,600/- whichever is higher Note: Excess over-limit fee is charged on your credit cards when principal outstanding exceeds the limit. It is charged on a recurring monthly basis until the outstanding is adjusted to fall below the allowed limit. اوور لمٹ رقم کا 2 فیصد یا 1,600 روپے، جو بھی زیادہ ہو نوٹ: جب پرنسپل واجبات حد سے تجاوز کر جائیں تو آپ کے کریڈٹ کارڈز پر زائد فیس وصول کی جاتی ہے۔ یہ چارجز مدتی بنیاد پر ماہانہ وصول کیے جائیں گے جب تک کہ واجبات کی ادائیگی نہ ہو جائے اور وہ منظور کردہ حد کے اندر نہ آجائیں۔												

	<table><tr><td>Card Replacement Fee کارڈ تبدیل کرنے کی فیس</td><td>Rs. 2,000/- per replacement 2,000 روپے فی تبدیلی</td></tr><tr><td>Copy of Statement Fee اسٹیٹمنٹ کی نقل کی فیس</td><td>None کوئی نہیں</td></tr></table> For further details on charges refer to SOC at www.bankalfalah.com چارجز کی مزید معلومات کے لیے www.bankalfalah.com پر شیڈول آف چارجز ملاحظہ کیجئے۔	Card Replacement Fee کارڈ تبدیل کرنے کی فیس	Rs. 2,000/- per replacement 2,000 روپے فی تبدیلی	Copy of Statement Fee اسٹیٹمنٹ کی نقل کی فیس	None کوئی نہیں
Card Replacement Fee کارڈ تبدیل کرنے کی فیس	Rs. 2,000/- per replacement 2,000 روپے فی تبدیلی				
Copy of Statement Fee اسٹیٹمنٹ کی نقل کی فیس	None کوئی نہیں				
Default Charges ڈیفالٹ چارجز	<table><tr><td>Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز</td><td>Rs. 2,500/- 2,500 روپے</td></tr><tr><td>Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee / چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز</td><td>Rs. 1,200/- 1,200 روپے</td></tr></table>	Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز	Rs. 2,500/- 2,500 روپے	Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee / چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز	Rs. 1,200/- 1,200 روپے
Late Payment Charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز	Rs. 2,500/- 2,500 روپے				
Cheque Return Charges/ Rejected Auto Pay Service fee / چیک کی واپسی / آٹوپے سروس مسترد ہونے کے چارجز	Rs. 1,200/- 1,200 روپے				
Cancellation Charges منسوخی کے چارجز	No cancellation charges منسوخی کے کوئی چارجز نہیں				
Renewal Charges تجدید کے چارجز	No renewal charges تجدید کے کوئی چارجز نہیں				
Expiry معیاد کا خاتمہ	5 years from the date of card issuance کارڈ کے اجراء کی تاریخ سے 5 سال				
Insurance Coverage انشورنس کوریج	CLIW – Company Liability Insurance Waiver: No Fee For further details on terms and conditions refer to www.bankalfalah.com سی ایل آئی ڈبلیو۔ کمپنی لائبیلٹی انشورنس ویور: کوئی فیس نہیں شرائط و ضوابط پر معلومات کے لیے www.bankalfalah.com ملاحظہ کیجئے۔				
How can you get assistance or make a complaint? آپ رہنمائی کیسے حاصل کریں گے یا شکایت کیسے درج کروائیں گے؟	رابطے کی تفصیلات بینک الفلاح لمیٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ یونٹ، چھٹی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔ ہیلپ لائن: (+92 21) 111-225-111 ای میل: contactus@bankalfalah.com ویب سائٹ: http://www.bankalfalah.com/ سنوائی لنک: http://sunwai.sbp.org.pk/ Contact Information: Bank Alfalah, Complaint Management Unit, 6th Floor, State Life Building no. 1, II Chundrigarh Road, Karachi. Helpline: (+92 21) 111-225-111 Email: contactus@bankalfalah.com Website: http://www.bankalfalah.com/ Sunwai Link: http://sunwai.sbp.org.pk/				
Cross Border Transactions سرحد پار ٹرانزیکشنز	When a transaction is performed at any merchant located outside Pakistan, then this transaction is deemed as cross border or international transaction. کسٹمر پاکستان سے باہر کسی مرچنٹ لوکیشن پر کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو یہ سرحد پار ٹرانزیکشن یا بین الاقوامی ٹرانزیکشن کہلائے گی۔				
E-commerce Transactions ای کامرس ٹرانزیکشنز	When a transaction is being performed over Internet then this is deemed to be e-commerce transaction. جب کوئی ٹرانزیکشن بذریعہ انٹرنیٹ سر انجام دی جاتی ہے تو وہ ای کامرس ٹرانزیکشن تصور کی جاتی ہے۔				

Contact-less Transaction کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن	Please note that for contact-less transactions up to PKR 3,000/- , customer may simply tap their card on a contact-less-enabled POS terminal without inserting PIN. Furthermore, single transaction limits for NFC (Contact-less) transactions are set by the acquiring bank (merchant's bank) and may vary across different regions. Bank Alfalah will not be liable for any unauthorized transactions caused by disclosing card details to others or delayed reporting of loss/stolen cards. براہ کرم نوٹ کریں کہ 3,000 روپے تک کی کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کے لیے صارف محض اپنا کارڈ کانٹیکٹ لیس یعنی پی او ایس سہولت والی مشین پر بغیر پین درج کیے ٹیپ کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ کانٹیکٹ لیس ٹرانزیکشن کی فی ٹرانزیکشن حد ایکوائرننگ بینک (مرچنٹ کا بینک) مقرر کرتا ہے، جو مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ بینک الفلاح کسی بھی غیر مجاز ٹرانزیکشن کا ذمہ دار نہیں ہوگا اگر کارڈ کی تفصیلات کسی اور کو فراہم کی جائیں یا کارڈ کے گم یا چوری ہونے کی اطلاع دینے میں تاخیر کی جائے۔
EOL ای او ایل	EOL means Excess Over Limit, which refers to a cardholder's account that has surpassed its assigned/approved credit limit. Excess Over Limit (EOL) charges will apply as per the bank's SOBC if your outstanding balance exceeds your credit limit until the outstanding is adjusted below the assigned limit. EOL Charges will also apply on recurring transactions/legitimate transactions irrespective of your enrollment in the EOL facility. For your convenience Bank Alfalah offers you the facility of going over limit up to 10% on your credit card. EOL سے مراد 'اضافی حد سے تجاوز' ہے، یعنی ایسا کارڈ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ اس کی مقررہ/منظور شدہ کریڈٹ حد سے تجاوز کر چکا ہو۔ اگر آپ کا بقایا بیلنس کریڈٹ حد سے تجاوز کرے تو (EOL) چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOBC) کے مطابق لاگو ہوں گے۔ یہ چارجز اس وقت تک نافذ رہیں گے جب تک بقایا رقم مقررہ حد سے کم نہ ہو جائے۔ یہ چارجز بار بار ہونے والی یا باقاعدہ ٹرانزیکشنز پر بھی لاگو ہوں گے، خواہ آپ نے EOL سہولت میں شمولیت اختیار کی ہو یا نہیں۔ آپ کی سہولت کے پیش نظر، بینک الفلاح آپ کو کریڈٹ کارڈ پر 10 فیصد تک سہولت فراہم کرتا ہے۔

*For all fee lines FED applies.

*تمام فیس لائنز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہے۔

By signing this document:

I confirm that I have carefully read and fully understood the contents herein.

I acknowledge receipt of a copy of the Bank Alfalah Key Fact Statement for Corporate Card.

میں نے اس دستاویز کو بغور پڑھ لیا ہے:

اور میں دستخط کر کے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے موجود مواد کو احتیاط سے پڑھا اور پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ Corporate کارڈ کے لیے بینک الفلاح کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ کی ایک کاپی وصول کر لی ہے۔

Authorised Signatory's Signature
and Company Stamp

مجاز دستخط کنندہ کے دستخط اور کمپنی کی مہر

Authorised Banker's Signature,
Stamp and Date

بینک کے مجاز افسر کے دستخط، مہر اور تاریخ

*SOC = Schedule Of Charges

*p.m. = per month

*p.a. = per annum